

Attempt questions

- 1 Write and explain the equation for the mechanism of enzyme action. انزائم ایکشن کے میکانزم کی مساوات لکھیے اور اس کی وضاحت کیجئے۔ 1
- 2 What is metabolic pathways? میٹابولک سلسلے سے کیا مراد ہے؟ 2
- 3 Differentiate between Protease enzyme and Amylase enzyme. پروٹی ایز انزائم اور ایمائی لیز انزائم میں فرق تحریر کریں۔ 3
- 4 What is optimum temperature for the working of an enzyme? Give an example. آپٹیم ٹمپریچر میں اضافہ انزائمز کی رفتار پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ مثال دیجئے۔ 4
- 5 What is meant by Active site? Write its benefits. ایکٹو سائٹ سے کیا مراد ہے؟ اس کا فعل لکھیے۔ 5
- 6 What is meant by saturation of active sites? ایکٹو سائٹس کی سچو ریشن سے کیا مراد ہے؟ 6
- 7 Define induced fit model. Who suggested this model? انڈیوسڈ فٹ ماڈل کی تعریف کیجئے اور یہ کس نے پیش کیا؟ 7
- 8 Which is called optimum pH? آپٹیم pH سے کیا مراد ہے؟ 8

Attempt questions

- 1 Which factors effect the rate of enzyme action? انزائم ایکشن کی رفتار پر اثر انداز ہونے والے فیکٹرز بیان کیجئے۔ 1
- 2 Write characteristics of enzyme. انزائم کی خصوصیات تحریر کیجئے۔ 2